

## Urdu -What is Healthwatch

### ہیلتھ واچ (Healthwatch) نیٹ ورک کیا ہے؟

انگلستان کے اندر صحت اور سوشل کیئر کے حوالہ سے **ہیلتھ واچ (Healthwatch)** صارفین کے لیے ایک نیا حمایتی ادارہ ہے۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ بچوں، نوجوانوں اور بالغ عمر کے افراد کی آراء اور تجربات ان لوگوں کے کانوں تک پہنچ سکیں جو کہ صحت اور سوشل کیئر کے حوالہ سے خدمات کے لیے قانون سازی، منصوبہ بندی اور انتظام کے ذمہ دار ہیں، ہم ان کے لیے ایک زبردست حمایت فراہم کرتے ہیں۔

اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ خدمات کا استعمال کرنے والے تمام افراد کے خیالات کو یکجا کر کے ان کا تجزیہ اور ان پر عمل کیا جائے ہم سروسز کو موجودہ وقت اور مستقبل میں بہتر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ **ہیلتھ واچ (Healthwatch)** متحرک انداز سے کمیونٹی کے تمام افراد کے خیالات حاصل کرتی ہے؛ خاص طور پر ان افراد کے جنہیں بعض اوقات اپنی آراء دوسروں تک پہنچانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا کہ صرف ان لوگوں کی آراء جو کہ بہت زیادہ صدا بلند کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہیلتھ اور سوشل کیئر فراہم کرنے والوں، قانون سازوں اور منصوبہ سازوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آراء کو براہ راست بھی سنیں۔

**ہیلتھ واچ (Healthwatch)** دو حصوں پر مشتمل ہے؛ قومی سطح کی **ہیلتھ واچ (Healthwatch)** انگلینڈ اور کمیونٹی کی سطح پر 152 لوکل ہیلتھ واچ ہیں۔ ہم سب اکٹھے مل کر صارفین کے خیالات کو قومی اور مقامی سطح پر پیش کرتے ہوئے ہیلتھ واچ کا ایک نیٹ ورک تشکیل دیتے ہیں۔

### ہیلتھ واچ (Healthwatch) انگلینڈ کیا کام کرتی ہے؟

**ہیلتھ واچ (Healthwatch)** انگلینڈ صحت اور سوشل کیئر سروسز کا استعمال کرنے والے بچوں، نوجوانوں اور بالغ عمر رکھنے والے افراد کو درپیش مسائل قومی سطح پر لے کر جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل سے حاصل شدہ شواہد کو بنیاد بناتے ہوئے یہ قومی سطح پر صارفین کے تجربات اور رجحانات کا ایک عقلمندانہ جائزہ تیار کرتی ہے۔

- ان لوگوں کے خیالات اور تجربات جو کہ مقامی اور قومی سطح پر سروسز کا استعمال کرتے ہیں۔
- مقامی ہیلتھ واچ (Healthwatch) کے حاصل کردہ خیالات اور تجربات۔
- شراکت داروں، ساتھ کام کرنے والوں، بشمول خیراتی اداروں، پیشہ ورانہ تنظیموں اور کمزور افراد کی مدد کرنے والے افراد کے ذریعہ اکٹھے کیے گئے شواہد۔

ان تمام شواہد کو حکمت عملی میں تبدیلی کرنے، اہم مسائل کو نمایاں کرنے، قانونی سازی اور صحت و سوشل کیئر کی خدمات کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں بہت اہم مسائل نمایاں ہوں انہیں سیکرٹری آف سٹیٹ فار ہیلتھ، کیئر کوالٹی کمیشن، این ایچ ایس کمیشننگ بورڈ، مانیٹر یا انگلینڈ کی لوکل اتھارٹیز کے روبرو پیش کیا جاتا ہے۔ قانونی طور پر انہیں **ہیلتھ واچ (Healthwatch)** انگلینڈ کے خدشات کا جواب فراہم کرنا پڑتا ہے۔

ہیلتھ واچ (Healthwatch) انگلینڈ لوکل ہیلتھ واچ کو قیادت، مدد اور رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے تاکہ وہ مقامی افراد کی پرزور حمایت اور کمیونٹیز کے اندر مضبوط شراکت داری کو فروغ دے سکیں۔

### لوکل ہیلتھ واچ (Healthwatch) کیا کام کرتی ہے؟

لوکل ہیلتھ واچ (Healthwatch) لوگوں کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ مقامی سطح پر صحت اور سوشل کیئر سروسز کو اچھی طرح سے استعمال میں لائیں؛ خواہ یہ ان کے لیے آج ہی بہتری کا سامان مہیا کر رہی ہو یا مستقبل کی تیاری میں مدد دے رہی ہو۔ لوکل ہیلتھ واچ (Healthwatch) کا مقصد مقامی سطح کی آراء کو مقامی سطح کی خدمات کی تیاری اور ان کی فراہمی پر اثر انداز ہونے کے قابل بنانا ہے۔ نہ صرف اس کا استعمال کرنے والے افراد کے لیے بلکہ مستقبل میں بھی ان کا استعمال کرنے والے کسی بھی شخص کے لیے۔

### لوکل ہیلتھ واچ (Healthwatch):

- لوگوں کے مقامی سطح پر صحت اور سوشل کیئر کی خدمات کے بارے میں معلومات، رہنمائی اور مدد فراہم کرنا۔
- خدمات کی فراہمی کے طریق کار کے بارے میں لوگوں کے خیالات اور تجربات یکجا کرنا اور اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ صحت اور سوشل کیئر کی سروسز کس طرح کام کر رہیں ہیں ان میں داخل ہو کر ان کا جائزہ لینا۔
- سروس استعمال کرنے والوں سے حاصل شدہ شواہد کی بنیاد پر سروسز کی فراہمی اور تیاری کے طریق کار پر اثر انداز ہونا۔
- لوکل ہیلتھ واچ اور ویل بیننگ بورڈ پر نمائندگی رکھنے کے ذریعہ سروسز کے قیام اور فراہمی کے طریق کار پر اثر انداز ہونا۔
- دیگر لوکل ہیلتھ واچ (Healthwatch)، ہیلتھ واچ انگلینڈ اور کیئر کوالٹی کمیشن تک معلومات اور سفارشات پہنچانا۔

### آنا براڈلی، صدر ہیلتھ واچ (Healthwatch) انگلینڈ کہتی ہیں:

"ہیلتھ واچ ورک صحت اور سوشل کیئر کے شعبہ میں صارفین کی حمایت کی ایک نئی قسم ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صارفین کے نقطہ نظر کو سنا اور اس پر عمل کیا جائے۔ نیٹ ورک اپنے خود مختار قانونی اختیارات کے ساتھ مجموعی طور پر فرق کو نمایاں کرنے کا ایک شاندار موقع ہے۔ ہیلتھ واچ (Healthwatch) انگلینڈ اس بات کو یقینی بنانے کی منتظر ہے کہ صحت اور سوشل کیئر کی خدمات کی منصوبہ بندی، بندوبست اور انتظام کرنے والے افراد عوام کی آواز کو واضح طور پر سنیں۔"



Healthwatch Northamptonshire

3<sup>rd</sup> Floor Lakeside House

The Lakes, Bedford Road,

Northampton, NN4 7HD

Tel 0300 002 0010

Text 07951 419331

enquiries@healthwatchnorthamptonshire.co.uk

www.healthwatchnorthamptonshire.co.uk

healthwatch  
Northamptonshire